

Time : 2:30 Hours

Paper (II)

وقت : 2:30 گھنٹے

Marks : 80

اشیائی

نمبر : 80

Note:- Section I is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section II.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات کے جوابات لکھئے۔

SECTION-B

حصہ دوم

(5 x 2 = 10)

2. Write short answers to any Five parts.

- Elaborate the statement of affairs.
- What is meant by additional capital?
- Define Consignee.
- Give two examples of abnormal loss.
- What is del-credere commission?
- What is meant by non-trading concern?
- Define Subscription.
- What is honorarium?

3. Write short answers to any Five parts.

- What is your analysis of obsolescence?
- How would you explain straight line method?
- Define Foreign Company.
- What is meant by public company?
- Define Chartered Company.
- What is meant by co-ownership?
- Define Active Partner.
- Write down the formula of sacrificing ratio.

2. کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

- گوشتوارہ معاملات کو واضح کیجئے۔
- مزید سرمائے سے کیا مراد ہے؟
- مرسل البیہ کی تعریف کیجئے۔
- غیر معمولی نقصان کی دو مثالیں دیجئے۔
- ڈیل کر پڑر کمیشن کیا ہے؟
- غیر تجارتی ادارے سے کیا مراد ہے؟
- چندہ کی تعریف کیجئے۔
- اعزازیہ کیا ہے؟

3. کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

- عدم کفایت کا آپ نے کیا تجزیہ کیا ہے؟
- سیدھی لائن کے طریقے کی آپ کیسے وضاحت کریں گے؟
- غیر ملکی کمپنی کی تعریف کیجئے۔
- عوامی کمپنی سے کیا مراد ہے؟
- مشواری کمپنی کی تعریف کیجئے۔
- مشترکہ ملکیت سے کیا مراد ہے؟
- کارکنی حدود کی تعریف کیجئے۔
- قربانی کے تناسب کا فارمولہ لکھئے۔

SECTION - C

حصہ سوم

Each question carries Twenty (20) marks.

4. ہر سوال کے میں (20) نمبر ہیں۔

Iqbal Traders keeps his books on single entry system. His position on January, 01 and on 31st December 2015 is as under.

Account Title	کھاتوں کے نام	01-01-2015	31-12-2015
Cash in hand	زر نقد	Rs. 3930	Rs. 6700
Bank overdraft	بنک قرضہ	2410	-
Debtors	دین دار	9400	13680
Creditors	لین دار	6510	7300
Stock	ذخیرہ	8720	15870
Furniture	فرنیچر	7000	7000

During the year he introduced a fresh capital of Rs.15000 and withdrew cash Rs.6750.

Depreciate Furniture by 10%.

Required:

Prepare statement of profit and loss as on 31st December 2015

31 دسمبر 2015 کا نفع و نقصان کا گوشوارہ تیار کیجئے۔

5. The following is the receipt and payment account of Sultan Club for the year ended on 31st December 2018.

Receipts	دسویاں	Amount Rs.	ادائیگیاں	Amount Rs.
Opening balance	ابتدائی بیلنس	10000	تجواہیں	12000
Subscription	چندہ	15000	مرمت	4200
Entrance fee	داخلہ فیس	6000	فرنیچر	12300
Legacy	وراثت	12000	سرمایہ کاری	7000
Misc. receipts	متفرق دسویاں	710	سہولیات خرچ	1300
			انتہائی بیلنس	6910
Total	میزان	43710	میزان	43710

Additional Informations:

اضافی معلومات:

- Subscription in arrear for the year Rs.1000 while received in advance Rs.300 for next year.
- Interest on investment accrued Rs.500.
- Salaries outstanding Rs.1500.

i. مبلغ ایک ہزار روپے چندہ واجب الوصول ہے جبکہ مبلغ تین سو روپے اگلے سال ملے گا۔

ii. سرمایہ کاری پر سود واجب الوصول ہے مبلغ 5 سو روپے۔

iii. واجب الادا تجواہیں مبلغ 15 سو روپے۔

Required: آمادگی اور اخراجات کا کھاتہ تیار کیجئے۔

Prepare income and expenditure account.

(Turn Over)

(دورق لکھئے)